


# SNÖFINK



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **English**

As wall materials vary, screws for fixing to wall are not included. For advice on suitable screw systems, contact your local specialised dealer.

## **Deutsch**

Da es viele verschiedene Wandmaterialien gibt, sind Schrauben für die Wandbefestigung nicht beigelegt. Ggf. sollte man sich beim Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

## **Français**

Les vis et ferrures pour fixer le meuble/l'objet au mur ou au plafond ne sont pas incluses. Choisissez des vis et ferrures adaptées au matériau de votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un vendeur spécialisé.

## **Nederlands**

Omdat er zoveel verschillende soorten wandmaterialen zijn, zitten er geen schroeven voor de wandbevestiging in de verpakking. Voor advies over geschikte schroeven, neem contact op met de plaatselijke vakhandel.

## **Dansk**

Der findes mange forskellige vægmateriale, og derfor medfølger der ikke skruer til vægmontering. Hvis du har brug for råd om forskellige skruer og rawlplugs, skal du kontakte en uddannet forhandler.

## **Íslenska**

Veggir húsa eru mismunandi og því fylgja ekki skrúfur til að festa húsgagnið við vegg. Fáið ráð í byggingavörumerlun varðandi hentugar skrúfur.

## **Norsk**

Ettersom det finnes mange ulike typer av veggmaterialer følger det ikke med skruer. Kontakt din lokale faghandel for råd om valg av skruer og festebeslag.

## **Suomi**

Koska erilaisiin seinämateriaaleihin on käytettävä erilaisia ruuveja, pakaus ei sisällä ruuveja seinäkiinnitystä varten.

## **Svenska**

Eftersom det finns många olika väggmaterial, medföljer ej skruvar för väggfästning. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.

## **Česky**

Stěny bývají z různých materiálů, a proto šrouby nejsou součástí balení výrobku. Vhodný typ šroubů vám doporučí ve specializované prodejně.

## **Español**

Como hay tantos tipos de paredes, no se incluyen los tornillos para el montaje en la pared. Para recomendaciones sobre sistemas adecuados, ponte en contacto con un especialista.

## **Italiano**

Poiché le pareti sono di materiali diversi, le viti per il fissaggio non sono incluse. Per scegliere le viti adatte, rivolgersi a un rivenditore locale.

## **Magyar**

Mivel a fal anyaga lakásonként / otthononként változó lehet, a rögzítéshez szükséges csavarokat, tipliket a csomag nem tartalmazza. A megfelelő csavarok kiválasztásáért kérj tanácsot az áruházban a szakképzett személyzettől.

## **Polski**

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znajdują się żadne umocowania ani wkręty. Aby uzyskać poradę w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

## **Eesti**

Seinamaterjalide erinevuse tõttu pole lisatud kruvisid. Sobivate kinnitusvahendite leidmiseks pöörduge lähimasse tööriistapoodi.

## **Latviešu**

Skrūves pieteiprināšanai pie sienas nav iekļautas komplektā, jo tās jāizvēlas atkarībā no sienu materiāla. Lai izvēlētos piemērotāko skrūvu sistēmu, sazinieties ar būvniecības speciālistu.

## **Lietuvių**

Kadangi sienų apdailos medžiagos skiriasi, tvirtinimo elementai nepridedami. Reikalingus varžtus ir tvirtinimo elementus padės pasirinkti vietas specializuotas pardavėjas.

## **Portugues**

Como os materiais de parede variam, os parafusos para fixar à parede não estão incluídos. Para obter conselho sobre o sistema de parafusos adequado, consulte o seu retalhista local especializado.

## Română

Întrucât materialele din care sunt construîti pereții variază, suruburile pentru fixarea pe perete nu sunt incluse. Contactează dealer-ul tău local pentru consiliere.

## Slovensky

Na rôzny typ stien použite vhodné skrutky. Ak si neviete dať rady, poradte sa s miestnym predajcom.

## Bългарски

Поради разнообразието от стенни материали, винтове за прикрепяне към стената не са осигуриeni. За съвет относно подходящи прикрепващи механизми можете да се свържете със специализиран доставчик.

## Hrvatski

S obzirom na različite vrste zidova, vijci za pričvršćivanje na zid nisu priloženi. Za savjet o odgovarajućim vijcima kontaktirajte svoju lokalnu specijaliziranu prodavaonicu.

## Ελληνικά

Επειδή τα υλικά των τοίχων διαφέρουν, οι βίδες στερέωσης δεν περιλαμβάνονται. Για πληροφορίες, σχετικά με το ενδεδειγμένο κατά περίπτωση σύστημα στερέωσης, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το ειδικευμένο κατάστημα της περιοχής σας.

## Русский

Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации на стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

## Українська

Оскільки матеріали стін різні, шурупи для кріплення до стін не додаються. За консультацією щодо шурупов звертайтеся до найближчого спеціалізованого магазину.

## Srpski

Kako se vrste zidova razlikuju, tiplovi nisu uključeni. Obrati se specijalizovanim radnjama za savet o odgovarajućim tiplovima.

## Slovenščina

Ker so stene lahko izdelane iz različnih materialov, vijaki za pritrditev na steno niso priloženi. Za nasvet glede primerne vrste vijakov se obrni na najbližjo specializirano trgovino.

## Türkçe

Duvar yapı malzemeleri farklılık gösterebileceğinden duvar montajı vidaları dahil değildir. Uygun vida sistemi için, ilgili araç gereçlerin satıldığı dükkanlara başvurunuz.

## 中文

本产品不附带安装螺钉。墙体材料不同，墙面安装使用螺钉须根据具体墙体材料进行适宜选择。必要时，应向专业五金店咨询。

## 繁中

因牆壁材質不同，產品不含上牆用螺絲。請選用適用牆壁材質的螺絲，可洽詢IKEA服務人員。

## 한국어

벽마다 소재가 다르기 때문에 벽고정용 나사는 포함되어 있지 않습니다. 적합한 나사 선택에 관해서는 전문가에게 문의하세요.

## 日本語

壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。適切なネジを選ぶには、お近くの専門店にご相談ください。

## Bahasa Indonesia

Karena bahan dinding yang berbeda, paket tidak disertai sekrup untuk pemasangan dinding. Untuk saran mengenai sistem sekrup yang sesuai, hubungi dealer setempat Anda.

## Bahasa Malaysia

Oleh kerana bahan binaan dinding adalah berbeza, skru untuk pemasangan pada dinding tidak disertakan. Untuk mendapatkan nasihat tentang sistem skru yang sesuai, hubungi wakil penjual khusus di kawasan anda.

## عرب


لا تضمن مسامير التثبيت لأن مواد الجدران تختلف. لمعرفة نوع المسامير الملائمة، يمكن اللجوء إلى الوكيل المختص.

## ไทย

เนื่องจากวัสดุผนังมีหลายชนิดแตกต่างกัน 硕鲁家推荐使用螺丝  
จึงไม่ได้แนบมาด้วย คุณสามารถขอรับคำแนะนำในการเลือกซื้อ  
硕鲁ที่เหมาะสมได้จากร้านจำหน่ายใกล้บ้าน

## Tiếng Việt

Do mỗi loại tường có chất liệu khác nhau, chúng tôi không cung cấp ốc vít cùng với sản phẩm. Để được tư vấn về các loại ốc vít phù hợp, hãy liên hệ với cửa hàng chuyên doanh tại địa phương.



### English

Hang out of child's reach to avoid your child gripping, climbing or pulling down the bed canopy.

### Deutsch

Außer Reichweite von Kindern montieren, um zu verhindern, dass das Kind am Produkt zieht, daran hochklettert oder es herunterreißt.

### Français

Suspendre hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne tirent dessus, qu'ils y grimpent ou qu'ils ne le décrochent.

### Nederlands

Buiten bereik van je kind te monteren om te voorkomen dat het kind de bedhemel vastpakt, erin klimt of naar beneden trekt.

### Dansk

Skal hænges uden for barnets rækkevidde for at undgå, at dit barn tager fat i eller kravler i sengehimlen eller trækker den ned.

### Íslenska

Hengdu utan seilingar barna til að koma í veg fyrir að barnið þitt grípi í, klifri í eða togi niður himnasængina.

### Norsk

Monteres utenfor rekkevidde for barnet ditt for å unngå at barnet griper, klatterer eller drar ned sengehimmelen.

### Suomi

Katos on ripustettava lapsen ulottumattomiin niin, että lapsi ei voi tarttua siihen, kiivetä sitä pitkin tai vetää sitä alas.

### Svenska

Monteras utom räckhåll för ditt barn för att undvika att barnet greppar, klättrar eller drar ner sänghimlen.

### Česky

Zavěste mimo dosah dětí, aby na baldachýn nešplhal a netahala za něj.

### Español

Cuelga el dosel fuera del alcance de los niños, para evitar que tu hijo pueda agarrarlo, trepar o tirarlo abajo.

### Italiano

Append il baldacchino fuori dalla portata dei bambini, per evitare che i bambini lo afferrino, lo tirino giù o vi si arrampichino.

### Magyar

Akaszd a gyermeket számára elérhetetlen helyre, hogy ne kapaszkodjanak bele, ne másszanak fel rá és ne húzzák le a baldachint.

### Polski

Zawieś w miejscu niedostępny dla dziecka, aby nie mogło chwycić, ciągnąć lub wspinać się na baldachim.

### Eesti

Riputage lapse haardeulatusest väljapoole, välimaks olukorda, kus laps haarab või kisub voodi baldahhiini või ronib sellel.

### Latviešu

Pakariniet bērnam nepieejamā vietā, lai bērns baldahīnu nerauštītu, nerāptos augšup un nekarātos tajā.

### **Lietuvių**

Pakabinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad negalėtų baldakimo nutraukti, užsikabinti už jo ir tempti žemyn.

### **Portugues**

Pendure fora do alcance das crianças, para evitar que a criança se agarre, trepe ou puxe o dossel.

### **Română**

nu agăța acest produs la îndemâna copiilor.

### **Slovensky**

Zaveste mimo dosahu detí, aby ste zabránili tåhaniu, vyliezaniu či ståhovaniu baldachýnu.

### **Български**

Окачете извън досега на детето, за да избегнете риска то да хване и дръпне балдахина или да се покатери по него.

### **Hrvatski**

Objesiti izvan dohvata djeteta za izbjegavanje povlačenja baldahina i penjanja na njega.

### **Ελληνικά**

Τοποθετήστε το έτσι ώστε το παιδί να μην μπορεί να πιαστεί, να σκαρφαλώσει ή να τραβήξει κάτω τον ουρανό του κρεβατιού.

### **Русский**

Вешайте таким образом, чтобы ребенок не мог дотянуться до полога.

### **Українська**

Вішайте полог так, щоб діти не змогли схопити, залізти або стягнути його.

### **Srpski**

Okači izvan domašaja dece tako da ne mogu dohvativati baldahin, popeti se uz njega niti ga strgnuti.

### **Slovenščina**

Posteljni baldahin naj bo nameščen izven dosega otrok, da ga ti ne morejo prijeti, vleči ali plezati po njem.

### **Türkçe**

Yatak tentesini, çocuğunuzun uzanmasını, tırmanmasını veya aşağı çekmesini önlemek için ulaşamayacağınız şekilde asınız.

### **中文**

务必将其床篷悬挂在孩子够不着的地方，避免他们拉扯、攀爬床篷或将其拽倒。

### **繁中**

將床頂篷懸掛在兒童接觸不到的地方，避免他們握手、攀爬或拉下床頂篷。

### **한국어**

아이가 침대 캐노피를 잡고 올라가거나 잡아당기지 않도록 아이의 손이 닿지 않는 곳에 설치해주세요.

### **日本語**

ベッドキャノピーは、お子さまがつかんだり、よじ登ったり、引つ張り下ろしたりしないよう、お子さまの手の届かない場所に設置してください。

### **Bahasa Indonesia**

Gantung di luar jangkauan anak agar anak tidak memegang, memanjat atau menarik kanopi tempat tidur.

### **Bahasa Malaysia**

Gantungkan jauh daripada capaian kanak-kanak untuk elakkan anak anda mencengkam, memanjat atau menarik kanopi kanak-kanak ke bawah.

### **عربى**

علقها بعيداً عن متناول الأطفال لتجنبها أن يقوم طفل


. بالمساك بها أو سحب مظلة السرير إلى الأسفل .


### **ไทย**

แขวนให้สูงพับมือเดี๋ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กคล� ໄຕ หรือถึงบุบ คลุมเตียงลงมาบนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


### **Tiếng Việt**

Treo ngoài tầm với của trẻ để trẻ không cầm nắm, leo trèo hoặc kéo tách giường xuồng.





1x




1x



1x





1x




1x



1




**2**




**3**




4




**5**




# 6






7



**8**



(i)

